




4409CH13

کھیت اور بارہ (Fields & Fences)

13

رحمت ایک کسلن ہے۔ وہ اپنے کھیت میں گیہوں اگاتا ہے۔


میں اپنے کھیت کے چاروں طرف بارہ لگانا چاہتا ہوں۔ مجھے کتنا تار خریدنا چاہیے؟



رحمت کو اپنے کھیت کے محیط کی لمبائی معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ اس تصویر سے اسے معلوم کر سکتے ہیں؟ ہر کنارے پر کچھ ہوئی اس کی لمبائی کو دیکھیے۔






ہو۔۔۔۔۔! محیط کی
لمبائی 54 میٹر ہے۔



رحمت نے بارہ کے لیے 70 میٹر کا تار کا گولاخریدا





149



کیا تم مجھے اپنا بچا ہوا تار دے سکتے ہو؟ میں اسے اپنے کھیت میں لگاؤں گا۔

رحمت نے گنپت کو کتنا تار دیا؟



گنپت نے رحمت کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کھیت میں باڑ لگانی شروع کر دی۔ مگر اسے اور تار لانے کی ضرورت پڑی۔



* گنپت کے کھیت کا محيط کتنا ہے؟

* اپنے کھیت کے لیے گنپت کو اور کتنے تار کی ضرورت ہے؟

مشق کا وقت



1۔ یہاں کچھ اور کھیتوں کی تصویریں ہیں۔ معلوم کیجیے کہ ان میں سے کس کے محیط کی لمبائی سب سے زیادہ ہے؟

$$\text{میٹر} \quad \underline{\hspace{2cm}} = \text{محیط}$$



$$\text{میٹر} \quad \underline{\hspace{2cm}} = \text{محیط}$$


$$\text{میٹر} \quad \underline{\hspace{2cm}} = \text{محیط}$$



$$\text{میٹر} \quad \underline{\hspace{2cm}} = \text{محیط}$$

2- چندو کے والدگاؤں میں 'نوجوان بزرگ' کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ 70 سال کی عمر میں وہ پوری طرح تدرست ہیں۔ کیا آپ اس کا راز جانتے ہیں؟ وہ ہر صبح کھیت کے چاروں طرف ٹھہنے جاتے ہیں۔ ہر روز وہ چندو کے کھیت کے چار چکر لگاتے ہیں۔
* وہ کل کتنی دوری طے کرتے ہیں؟


$$4 \times \underline{\quad} = \underline{\quad} \text{ m} = \underline{\quad} \text{ km}$$



3- گنپت کی بیوی ایک درزی کی دکان میں کام کرتی ہے۔ اسے ایک میز پوش کے چاروں طرف جھال رکانی ہے۔

اس نے 100 میٹر جھال کا ایک گولا خریدا۔

* میز پوش کی تصویر کو دیکھیے اور بتائیے کہ ایک میز پوش میں کتنی جھال رکنے گی۔




* ایسے تین میز پشوں میں کتنی جھال رکنے گی؟

* گولے میں کتنی جھال رکنے چکے گی؟

سرگرمی

1- ان شکلوں کے محيط کی لمبائی معلوم کیجیے (اشارہ: آپ دھاگا استعمال کر سکتے ہیں۔)



ان مربعوں کو گن کر معلوم کیجیے:

* ہر ایک شکل میں کتنے مربعے ہیں؟

* کون سی شکل سب سے کم مربعوں کو گھیرتی ہے؟

* کون سی شکل سب سے زیادہ مربعوں کو گھیرتی ہے؟

2- ایک 20 سینٹی میٹر لمبای دھاگا لیجیے۔ اس کے سروں کو ملا کر مختلف شکلیں بنائیے۔ اگلے صفحے کے خانے دار کاغذ پر انھیں رکھ کر معلوم کیجیے۔

* ہر شکل میں کتنے مربعے ہیں؟


* کون سی شکل سب سے بڑی ہے؟

* کون سی شکل سب سے چھوٹی ہے؟

* ہر ایک شکل کے محيط کی لمبائی کتنی ہے؟

طلباً سے ان مربعوں کو گننے کو منع کیجیے جو آدھے سے کم ہیں اور ان مربعوں کو گننے کے لیے کہیے جو آدھے سے زیادہ ہیں۔ اس سے انھیں ”دائرے کے عمل“ کا ادراک حاصل ہوگا۔

3۔ دو مربعوں کو جوڑ کر آپ کتنی الگ الگ شکلیں بناتے ہیں؟ نیچے دیے گئے خانے دار کا غذ پر انھیں بنائیے۔ ہر شکل کے محیط کی لمبائی کتنی ہے؟



اس عمل کو تین مربعوں کی مدد سے بھی کیجیے۔

مشق کا وقت


1- ایک مرربع کا محيط 12 سینٹی میٹر ہے۔

(a) اس مرربع کے کنارے سے ایک چھوٹا مرربع جس کا ایک ضلع 1 سینٹی میٹر کا ہے، کاٹیے۔ کیا کا محيط کم یا زیادہ ہو جاتا ہے اس کی لمبائی معلوم کیجیے۔

(b) اگر آپ اس میں سے 1 سینٹی میٹر کا مرربع کاٹ کر C شکل حاصل کریں تو C کے محيط کی لمبائی کتنی ہوگی؟

2 (a) مرربع D کے محيط کی لمبائی معلوم کیجیے۔

(b) مرربع D میں سے 1 سینٹی میٹر کے کنارے والے 8 مرربع کاٹیے۔ اب یہ شکل E کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ شکل E کے محيط کی لمبائی کتنی ہے؟



(c) اس کا محيط ہے

کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محيط $1 \times 4 = 4$ سینٹی میٹر ہے؟


3۔ ایک ہاکی کا میدان 91 میٹر 40 سینٹی میٹر لمبا اور 55 میٹر چوڑا ہے؟ میدان کے محیط کی لمبائی کیا ہے؟

4۔ اوشا اور ولسما دوڑ لگا رہی ہیں۔ اوشا اندر ونی دائرے میں دوڑ رہی ہے۔ ولسما باہری دائرے میں دوڑ رہی ہے۔




ولسما، اوشا سے تیز دوڑتی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ دوڑ ہار جاتی ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟

کیا آپ نے کوئی ایسی دوڑ دیکھی ہے جہاں دوڑنے والے الگ الگ جگہوں سے شروعات کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے؟ سوچیے کہ ایسا کیوں؟



اسکول کا باغ

درجہ III اور IV کے بچوں نے سبزی کا باغچہ بنانے کے لیے سوچا۔ انہوں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا جو ایسی لگتی تھی۔



دونوں کلاسوں کے طلباء سوچ رہے تھے کہ باغچہ بڑا ہے اس لیے دونوں باغچے لینا چاہتے تھے۔ اچانک نیتو نے کہا۔



* نیتو کو کیسے معلوم ہو گا کہ دونوں باغچے برابر ہی بڑے ہیں؟

سرگرمی!



1۔ اپنی کلاس کی میز کو دیکھیے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی ریاضی کا جادو کتابیں آپ اس پر رکھ سکتے ہیں۔ (یاد رکھیے کہ کتابیں ایک دوسرے پر نہیں چڑھنی چاہئیں۔ کتابوں کے درمیان کوئی جگہ نہیں چھوٹے)۔

اپنا اندازہ یہاں لکھیے۔ _____

اب جانچ کیجیے کہ آپ کا اندازہ صحیح ہے یا نہیں۔

آپ کتنی کتابیں رکھ پائے؟ _____

آپ کے اندازے اور کتابوں کی حقیقی تعداد میں کتنا فرق ہے؟ _____

2۔ اب دوسری میز کو دیکھیے۔

(a) کیا یہ میز پہلے والی سے بڑی ہے؟

(b) اندازہ لگائیے کہ کتنی ریاضی کا جادو کتابیں اس میز پر رکھی جاسکتی ہیں۔

(c) جانچ کیجیے کہ کیا آپ کا اندازہ صحیح ہے۔

کتنی ریاضی کا جادو کتابیں آپ رکھ پائے؟ _____

(d) دونوں میزوں کی ناپوں میں فرق _____ کتابوں کا ہے۔


3 (a) ریاضی کا جادو کی کتنی کتابیں اخبار کے ایک صفحے سے ڈھکنی جاسکتی ہے؟

(b) اپنی ریاضی کا جادو کی کتاب کو اخبار کے آدھے صفحے سے ڈھکنے کی کوشش کیجیے۔

(c) کیا آپ اپنی کتاب کو ایک چھوٹے صفحے سے ڈھک سکتے ہیں؟

d) وہ چھوٹے سے چھوٹا صفحہ تلاش کیجیے جس سے آپ کی کتاب ڈھک سکے۔ جانچے کہ کیا آپ کے دوست نے آپ کے صفحے سے چھوٹا صفحہ استعمال کیا ہے۔


4 a) اس تصویر میں سب سے بڑی پتّی کون سی ہے؟



b) باغ سے کچھ پیتاں اکٹھا کیجیے۔ ان سبھی کواس خانے دارشیط پر رکھیے۔ اور ان کے خاکے اُتاریئے اور جانچے کہ ہر پتی کے اندر کتنے مربعے آئے ہیں۔

c) کون سی پتّی سب سے بڑی ہے؟

d) کون سی پتّی سب سے چھوٹی ہے؟



2 (a) اس بڑے ہرے مربعے میں 1 سینٹی میٹر سائز کے کتنے چھوٹے مربعے ہیں؟

(b) کیا آپ کوئی اور تیز طریقہ سوچ سکتے ہیں جس میں آپ ہر ایک کو گنے بغیر کل مربعوں کی تعداد معلوم کر سکیں۔


3۔ اندازہ لگائیے کہ اس نیلے مربعے میں ایک سینٹی میٹر کے کتنے مربعے آجائیں گے۔



اپنے اندازے سے یہاں لکھیجیے۔

اپنے اندازے کی جانچ اسے چھوٹے مربعوں سے بھر کر کیجیے۔

4۔ تصویر دیکھیے۔ کیا آپ اسے 4 برابر حصوں میں بانٹ سکتے ہیں؟ ہر حصے میں مربعوں کی برابر تعداد ہونی چاہیے۔



پہلی: ایک گھر اور ایک کنوں

را گھون کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔

اس زمین پر 4 گھر ہیں اور اس کے بیچ میں ایک کنوں ہے۔ وہ اس زمین کو اپنے چار بجھوں میں برابر برابر
بانٹنا چاہتا ہے۔ ہر ایک کو ایک گھر ملنا چاہیے اور ہر کوئی اس کنوں کو بنا کسی کی زمین پر داخل ہوئے استعمال
کرے۔ کیا زمین بانٹنے میں آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں؟

ہر ایک کے حصے کو الگ رنگ سے دکھائیں۔

